



Amalgamated کالج کے لیے بچت بینک اکاؤنٹ کھولنے کا طریقہ

2

کالج کے لیے بچت کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ NYC Kids RISE ہر فیملی کو اپنے لیے بہترین اختیار منتخب کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ nyckidsrise.org/options ملاحظہ کریں یا کالج اور کیریئر کے لیے بچتوں کے اختیارات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے کالج کے لیے بچت پروگرام (Save for College Program) کی ورکشاپ میں جائیں۔

آپ کی فیملی کے لیے دستیاب کالج کے لیے بچتوں میں سے ایک اختیار **Amalgamated کالج کے لیے بچت بینک اکاؤنٹ ہے۔**

« یہ Amalgamated Bank میں ایک روایتی بچت اکاؤنٹ ہے، جو والدین/سرپرست یا دیگر فیملی ممبر کے زیر ملکیت ہوتا ہے، نیز بچہ استفادہ کنندہ کے بطور نامزد ہوتا ہے۔

« یہ اکاؤنٹ فیملیز کو ایک بیمہ شدہ مالیاتی ادارے میں بچت کرنے اور اکاؤنٹ میں وہ جو پیسہ جمع کراتے ہیں اس پر سود کمانے دیتا ہے۔ اگر بینک ناکام ہو جاتا ہے تو آپ کا پیسہ، \$250,000 تک، بیمہ شدہ ہے۔¹

« اس اکاؤنٹ میں موجود پیسے پر سود مل سکتا ہے اور سود قابل ٹیکس ہے۔

« اس اکاؤنٹ کے ساتھ وابستہ کوئی ماہانہ مینٹیننس فیس نہیں ہے۔ تاہم، اس اکاؤنٹ پر کچھ ٹرانزیکشن فیس لگتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے، Amalgamated Bank کو 800-662-0860 پر کال کریں یا شاخ میں فیس شیڈول پتہ کریں۔

امعیاری ڈیپازٹ کے بیمہ کوریج کی حد \$250,000 فی ڈیپازٹر، فی فیڈرل ڈپازٹ انشورنس کارپوریشن (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) بیمہ شدہ بینک، فی ملکیت کا زمرہ ہے۔ ملکیت کے مختلف زمروں میں رکھی گئی ڈیپازٹس علیحدہ طور پر، کم از کم \$250,000 تک بیمہ شدہ ہیں، چاہے اسے اسی بینک میں رکھا گیا ہو۔

اس قسم کا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے مجھے کون سی معلومات درکار ہیں؟

اکاؤنٹ مالک کے بطور، آپ کو درج ذیل معلومات درکار ہوں گی:

« ایک درست سوشل سیکورٹی نمبر (Social Security Number)، انفرادی ٹیکس دہندہ کا شناختی نمبر (Individual Taxpayer Identification Number) یا W8 کی تصدیق۔

« وفاقی یا ریاستی سرکاری ایجنسی سے جاری شدہ ایک درست باتصویر ID، یا IDNYC کی میونسپل ID۔ اگر آپ IDNYC کارڈ استعمال کرتے ہیں تو پتے کا اضافی ثبوت درکار ہوگا جیسے کیبل یا یوٹیلیٹی بل۔

« آپ کا پتہ اور تاریخ پیدائش۔

« آپ کے بچے کا نام، پتہ اور تاریخ پیدائش۔

« آپ کا ای میل پتہ (تجویز کردہ)۔

میں اس قسم کا اکاؤنٹ کس طرح کھول اور مربوط کر سکتا ہوں؟

« اس قسم کا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے، نیو یارک سٹی میں Amalgamated Bank کی کسی شاخ میں جائیں اور Amalgamated کالج کے لیے بچت بینک اکاؤنٹ کھولنے کے بارے میں پوچھیں۔ شاخوں کی فہرست اگلے صفحہ پر دیکھیں۔

← جاری

« آپ یہ اکاؤنٹ آن لائن یا فون پر نہیں کھول سکتے ہیں۔
« تاہم، آپ کا اکاؤنٹ کھل جانے پر، آپ اپنے اکاؤنٹ کا نظم کرنے کے لیے آن لائن اور موبائل بینکنگ رسائی دونوں کے لیے سائن اپ کر سکتے ہیں۔ آن لائن رسائی کے لیے، بینک کی ویب سائٹ، amalgamatedbank.com پر اندراج کریں۔
« آپ یہ اکاؤنٹ کھولنے کے عمل کے دوران NYC Kids RISE کے ساتھ اپنے اکاؤنٹ کا ڈیٹا شیئر کرنے پر اتفاق کر کے اس اکاؤنٹ کو اپنے بچے کے NYC اسکالرشپ اکاؤنٹ (NYC Scholarship Account) سے مربوط کر سکتے ہیں۔

کون سا لسانی تعاون دستیاب ہے؟

« انگریزی تمام شاخوں میں بولی جاتی ہے اور Amalgamated Bank کی تمام دستاویزات انگریزی میں فراہم کی جائیں گی۔
« ہسپانوی بذریعہ فون اور بعض اوقات شاخوں میں دستیاب ہے۔ مزید معلومات کے لیے مخصوص برانچ کو کال کریں۔

کیا میں آن لائن یا بذریعہ فون ایک اکاؤنٹ کھول سکتا ہوں؟

« نہیں، اس وقت نہیں۔

میں اس اکاؤنٹ کے بارے میں مزید معلومات کس طرح حاصل کر سکتا ہوں؟

« Amalgamated Bank سے رابطہ کریں: 800-662-0860۔
« **اپنے قریب** Amalgamated Bank کی کسی شاخ میں تشریف لے جائیں۔
« nyckidsrise.org/options ملاحظہ کریں۔

سٹی آف نیو یارک اور NYC محکمہ تعلیم (NYC Department of Education) NY 529 پروگرام مینیجر اور کسی خاص کالج کے لیے بچت یا دیگر سرمایہ کاری کے وسیلے، بشمول کالج کے لیے بچت پروگرام کے ذریعے فیملیز کو جن وسائل کے بارے میں علم ہو سکتا ہے ان کی تائید یا ان کے بارے میں تجویز پیش نہیں کرتا ہے اور اس کا اس پر کوئی کنٹرول، اس کی ملکیت یا اس کے ساتھ کوئی الحاق نہیں ہے۔

نیو یارک سٹی میں Amalgamated Bank کی شاخیں

آپ Amalgamated کالج کے لیے بچت بینک اکاؤنٹ ان مقامات پر کھول اور انہیں مربوط کر سکتے ہیں:

Bedford-Stuyvesant
1212 Fulton Street
Brooklyn, NY 11216
718-510-9001

Co-op City
2067 Bartow Ave.
Bronx, NY 10475
718-671-1800

Union Square
10 East 14th Street
New York, NY 10003
212-823-8708

nyckidsrise.org
info@nyckidsrise.org
833-543-7473

NYC
KIDS
RISE
Save for College
Program